

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو مالی گرانٹس دینے کا اعلان کر دیا ہے

برامپٹن، آن (6 اپریل 2021) – ایڈوانس برامپٹن فنڈ (ABF) برائے 2021 کے ایک حصے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن شہر کی 42 غیر منافع بخش تنظیموں اور خیراتی اداروں کی اعانت کرنے کے لیے انہیں گرانٹس دے رہا ہے۔

وصول کنندگان کی فہرست [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر دیکھی جا سکتی ہے۔

کونسل نے ABF کے لیے پروگرام فریم ورک کی منظوری اکتوبر 2020 میں دی تھی، جس میں تین زمرے رکھے گئے تھے – یعنی ابھرتے ہوئے، ترقی پذیر اور وسعت پذیر۔ ترقی پذیر اور وسعت پذیر پروجیکٹس کے زمروں کے لیے آخری تاریخ 3 فروری 2021 رکھی گئی تھی۔

اس سال نیا زمرہ ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کو رکھا گیا ہے جس کے تحت برامپٹن کے نئے اور ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کی مالی اعانت کی جائے گی اور ان سے سہ ماہی بنیادوں پر درخواستیں مانگی جائیں گی۔ درخواستیں جمع کرانے کا دوسرا دور اب کھلا ہوا ہے۔ ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کے زمرے میں برامپٹن میں موجود خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو \$5,000 تک کی مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ اس گرانٹ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 30 اپریل 2021 ہے۔ پروگرام کی رہنماء ہدایات کے لیے www.brampton.ca/ABF ملاحظہ کریں۔

سٹی آف برامپٹن کی کونسل کی مدت کی ترجیحات میں ایک ترجیح شہر کو ایک صحت مندانہ شہر بنانا بھی شامل ہے۔ کیونکہ ABF پروگرام میں کمیونٹی کے تحفظ اور تندرستی کو ایک ابھرتی ہوئی ضرورت کے طور پر رکھا گیا تھا، لہذا سٹی آف برامپٹن ان تنظیموں کی مالی اعانت کر رہا ہے جو کمیونٹی کے تحفظ اور تندرستی میں مدد دینے کے لیے کوشاں ہیں۔

کمیونٹی کی حفاظت کے لیے 2021 میں ABF کے وسعت پذیر زمرہ کے ذریعے فراہم کردہ گرانٹس میں سے ایک گرانٹ "پگ برادرز پگ سسٹرز آف پیل" کے پروگراموں کے لیے دی گئی تھی۔ رہنمائی کے پروگرام، برامپٹن کے نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کی مثبت ترقی، معاشرتی شمولیت، تفریحی مواقع اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔

تنظیم کو برامپٹن میں رہنمائی کے چار گروپ پروگراموں؛ دو نوعمر نوجوانوں کی رہنمائی کے گروپ پروگراموں؛ شیرین کالج میں ایک 'بگس آن کیمپس' گروپ مانیٹرنگ پروگرام؛ اور شیرین کالج میں ہی ایک بلیک یوتھ مانیٹرنگ پروگرام کے آغاز میں معاونت فراہم کرنے کے لیے \$25,000 ڈالر موصول ہوئے تھے۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے، سٹی کی سروسز کو مؤثر بنانے اور کونسل کی مدت برائے 2018-2022 کی ترجیحات میں پیش قدمی کے لیے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے کردار کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم ایڈوانس برامپٹن فنڈ کی مدد سے برامپٹن میں یہ سرمایہ کاری کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"تہواروں اور تقریبات کی معاونت سے لے کر اپنے نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کو صحت اور فلاح و بہبود کے پروگراموں کی فراہمی کرنے والی مقامی غیر منافع بخش تنظیموں تک، سٹی آف برامپٹن ان اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے جو ہمارے شہر کی تعمیر اور ہمیں اپنے 2040 ویژن کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہم اپنے ABF موصول کنندگان کے شکر گزار ہیں اور وہ ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کے لیے سہ ماہی بنیادوں پر درخواست دینے کے موقع کے حوالے سے میں تمام خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ اپریل کے مہینے ضرور درخواست دیں۔ آپ کی تنظیمیں ایسے پروگرام پیش کرتی ہیں جو برامپٹن کی کمیونٹی کو بناتی ہیں اور رہائشیوں کے معیار زندگی میں ایک مثبت فرق پیدا کرتی ہیں۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارٹنز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں کام کرنے والے ایسے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کر سکتا ہے جو ایسے پروگرام پیش کرتی ہیں جو رہائشیوں کے لیے مفید اور کونسل کی مدت کی ترجیحات کے عین مطابق ہوتے ہیں اور برامپٹن 2040 ویژن کی اعانت کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان گروپس کے اہم کاموں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca